

برائے فوری اجراء

برامپٹن اینیمل سروسز نے پورے کینیڈا میں پالتو جانوروں کے لیے ہوم ٹو ہوم™ (Home To Home™) سروس فراہم کرنے والی پہلی سروس بننے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے

برامپٹن، آن (18 جنوری 2021) - برامپٹن اینیمل سروسز کینیڈا میں پالتو جانوروں کے لیے ہوم ٹو ہوم™ سروس فراہم کرنے والی پہلی سروس ہے جو پالتو جانوروں کے ایسے مالکان کو ایک تعاملی سروس فراہم کرتی ہے جو اپنے جانوروں کو شیلٹر کے حوالے کیے بغیر ان کے رہنے کوئی اچھا گھر تلاش نہیں کر سکتے۔

ہوم ٹو ہوم™ کی مدد سے، جانوروں کو ان کے موجودہ گھر سے ان کے نئے گھر تک پہنچایا جاتا ہے۔ جانور کے متعلق درست معلومات کے حصول اور پالتو جانوروں کو منتقل کرنے کے حوالے سے پالتو جانوروں کا حالیہ اور نیا مالک اس پلیٹ فارم کی مدد سے براہ راست آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں۔

ری ہومنگ کی ویب سائٹ برامپٹن میں پالتو جانوروں کے ایسے مالکان کو مدد فراہم کرے گی جن کو اپنے پالتو جانوروں کے لیے نئے گھر کی تلاش ہوتی ہے، بشمول کتے، بلیاں اور دیگر جانور۔ کسی پالتو جانور کو دوسرے گھر میں منتقل کرنے کے لیے جانور کا حالیہ مالک صرف ایک مختصر آن لائن فارم بھرتا ہے اور ایک تصویر ڈالتا ہے۔ ایسے لوگ جو اپنی فیملی کے لیے کسی پالتو جانور کی تلاش میں ہوں، وہ ہوم ٹو ہوم™ پر دستیاب اپنی مرضی کا پالتو جانور تلاش کر سکتے ہیں۔ پالتو جانوروں کو نئے گھروں میں منتقل کرنے کی فیس کسی بھی فریق سے نہیں لی جاتی۔

برامپٹن اینیمل سروسز، سٹی کے ہوم ٹو ہوم™ پلیٹ فارم کو ضرورت کے مطابق دیکھتی رہتی ہے۔ گھروں سے منتقلی کے عمل میں مدد فراہم کرنے کے حوالے سے اینیمل سروسز تجاویز اور مفید مشورے بھی دے سکتی ہے۔ مالکان سے گزارش کی جاتی ہے کہ جب پالتو جانور اپنے نئے گھر میں بحفاظت پہنچ جائے، تو برامپٹن اینیمل سروسز کو مطلع کریں۔

اگرچہ ہوم ٹو ہوم™ کے ذریعے پالتو جانوروں کو نئے گھروں میں منتقل کرنے سے کچھ جانوروں کو شیلٹر کے حوالے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، مگر ہو سکتا ہے کہ یہ نئے گھروں میں منتقلی کی کچھ صورتوں میں موزوں نہ بھی ہو۔ تاہم، جانوروں کو ہر منفرد صورت حال کے پیش نظر پھر بھی شیلٹر میں براہ راست بھیجا جا سکتا ہے۔ براہ کرم مزید معلومات کے لیے برامپٹن اینیمل سروسز سے رابطہ کریں۔

ہوم ٹو ہوم™ تک رسائی کے لیے [یہاں](https://brampton.ca/animalservices) کلک کریں۔ اس پروگرام کے بارے میں مزید جاننے اور برامپٹن اینیمل سروسز تک رسائی حاصل کرنے کے لیے [Brampton.ca/animalservices](https://brampton.ca/animalservices) ملاحظہ کریں۔

ہوم ٹو ہوم™ ایک شیلٹر کی جانب سے دوسرے شیلٹرز کے لیے تیار کردہ ایک پروگرام ہے تاکہ ایسے لوگوں کو ایک مثبت آپشن مہیا کیا جائے جو اپنے پالتو جانوروں کو مزید اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ ہوم ٹو ہوم™ نیٹ ورک کو آن لائن home-home.org پر ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"پالتو جانوروں کو نئے گھروں میں منتقل کرنے کے حوالے سے کینیڈا میں پہلی مرتبہ ہوم ٹو ہوم™ سروس کی فراہمی پر برامپٹن کو فخر محسوس ہوتا ہے۔ مفت اور استعمال میں آسان یہ پلیٹ فارم پالتو جانوروں کے مالکان اور پالتو جانوروں کی تلاش کرنے والوں کو ہماری کمیونٹی میں جانوروں کے لیے مربوط اور پیارے گھر تلاش کرنے کا اختیار دیتا ہے۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"اب برامپٹن اینیمل سروسز، ہوم ٹو ہوم™ کے ذریعے پالتو جانوروں کو نئے گھروں میں منتقلی کا ایک پرچہ حل پیش کرے گا۔ ہم اپنے شیلٹر میں اب تھوڑے جانور رکھے جانے اور برامپٹن میں پالتو جانوروں کے لیے نئے گھروں کی تلاش میں وقت کی بچت اور آسانی پیدا ہونے کی توقع کرتے ہیں۔"

- برکیرات سنگھ، سٹی کونسلر وارڈز 9 اور 10؛ چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"اچھی طرح سے چلانے والے ایک شہر کے طور پر، سٹی آف برامپٹن ہمیشہ اپنے رہائشیوں اور ان کے پالتو جانوروں سے زیادہ مؤثر اور منسلک رہنے کے طریقے تلاش کرتا ہے۔ ہوم ٹو ہوم TM کے ذریعے کسی بھی جانور کو نئے گھر میں منتقل کیا جا سکتا ہے، بس پلیٹ فارم پر کلک کریں اور برامپٹن کے پالتو جانوروں کو ایک نیا گھر تلاش کرنے میں مدد مہیا کریں۔"

– رووینا سیٹھوس، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، کارپوریٹ سروسز، سٹی آف برامپٹن

"برامپٹن اینیمل سروسز کا عملہ برامپٹن میں پالتو جانوروں کے لیے پیار کرنے والے گھروں کی تلاش اور مواقع فراہم کرنے کے لیے وقف ہے۔ کینیڈا میں ہوم ٹو ہوم TM سروس کا آغاز کرنے والی پہلی کمیونٹی کی حیثیت سے، ہمارا عملہ پالتو جانوروں کے مالکان کو ضرورت کے مطابق اس عمل کے ذریعے مدد فراہم کرتا ہے اور اس کے علاوہ پالتو جانوروں کے مالکان کو با اختیار بنانا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں۔"

– ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

30--

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کنش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca